

نیو یارک سٹی میں بھنگ: اپنے حقوق کو جانیں

بھنگ (ماریجوآنا) نیو یارک اسٹیٹ میں بالغوں کے استعمال کے لیے قانونی ہے۔



بھنگ کی فروخت کی ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے۔ بھنگ قانونی طور پر خریدنے اور اگانے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، cannabis.ny.gov ملاحظہ کریں۔



نیو یارک کے طبی بھنگ پروگرام کی توسیع کر دی گئی ہے۔ تبدیلیوں کے بارے میں معلومات کے لیے، cannabis.ny.gov/medical-cannabis ملاحظہ کریں۔



21 سال اور زائد عمر کے بالغان بیشتر ایسی جگہوں پر بھنگ کی اسموکنگ یا ویپنگ کر سکتے ہیں جہاں تمباکو نوشی کی اجازت ہے۔



3 اونس 24 گرام

21 سال اور زائد عمر کے بالغان تین اونس تک کا بھنگ کا پھول یا کونیل، یا 24 گرام تک ارتکاز یافتہ بھنگ جیسے تیل یا ویپس اپنے پاس رکھ یا شینر کر سکتے ہیں (لیکن بیچ نہیں سکتے)۔

رہائش


■ نجی مکان مالکان بھنگ کے استعمال کی وجہ سے رہائش سے منع نہیں کر سکتے۔



■ نجی عمارت کی پالیسیاں گھروں کے اندر اسموکنگ یا ویپنگ کو محدود یا ممنوع قرار دے سکتی ہیں۔ اپنی لیز یا عمارت کے اصول چیک کریں۔

■ نیو یارک سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی (New York City Housing Authority, NYCHA) کے ہاؤسنگ ڈیولپمنٹس میں اسموک فری پالیسیاں ہیں جو پراپرٹی میں تمباکو اور بھنگ کی اسموکنگ اور ویپنگ پر پابندی عائد کرتی ہیں۔ جو عوامی رہائش وفاقی پروگرام کا حصہ ہے وہ بھنگ اور بھنگ کے پروڈکٹس کی تملیک اور استعمال کو ممنوع قرار دینے والے وفاقی قانون کے تحت آتی ہے۔

دوسرے کے دھوئیں کی زد میں آنا



■ بھنگ سمیت، کسی بھی پروڈکٹس کی اسموکنگ اور ویپنگ کی عمارتوں کے عوامی حصوں اور بیشتر کام کرنے والی جگہوں میں اجازت نہیں ہے۔ دیگر حصے جہاں اسموکنگ اور ویپنگ کی اجازت نہیں ہے ان میں ریستوران، شراب خانے اور عوامی جگہیں جیسے پارک اور ساحل بلا تحدید شامل ہیں۔

■ اسموک فری ہوا کے قوانین کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، nyc.gov/health/tobaccocontrol ملاحظہ کریں۔

■ اسموکنگ کی خلاف ورزیوں کے بارے میں شکایت درج کرانے کے لیے، 311 پر کال کریں یا portal.311.nyc.gov ملاحظہ کریں اور "smoking complaint" (اسموکنگ کی شکایت) تلاش کریں۔

ملازمت

■ آجرین کام سے باہر قانونی طور پر بھنگ کا استعمال کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ آجرین ایسی پالیسیاں تخلیق اور لاگو کر سکتے ہیں جو کام پر رہنے کے دوران نقص یا استعمال کو ممنوع قرار دیتی ہوں۔ اپنے آجر سے بھنگ سے متعلق ان کی مخصوص پالیسیاں معلوم کریں۔



■ آجرین ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں جو کام پر رہنے کے دوران بھنگ کی وجہ سے نقص کے شکار ہوں یا اسے استعمال کر رہے ہوں۔

□ مزید معلومات کے لیے، dol.ny.gov ملاحظہ کریں اور "workplace cannabis" (جانے کار میں بھنگ) تلاش کریں۔

■ NYC کا مقامی قانون بھنگ کے استعمال کی جانچ کے لیے ملازمت سے قبل ٹیسٹنگ کو ممنوع قرار دیتا ہے۔

□ مزید معلومات کے لیے، nyc.gov/dcas ملاحظہ کریں اور "cannabis testing" (بھنگ کی ٹیسٹنگ) تلاش کریں۔

بچے کی بہبود

■ بھنگ کی قانونی تملیک یا استعمال کو بچے کی تولیت یا ملاقات سے منع کرنے کی وجہ کے بطور استعمال نہیں کیا جا سکتا۔



■ جس کسی فرد کے ساتھ گھر میں بچہ یا نوجوان فرد ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے بھنگ یا بھنگ کے پروڈکٹس کو بچوں اور جوانوں کی نظر اور پہنچ سے دور رکھے۔

فوجداری قانونی نظام



■ بہنگ سے متعلق جو سابقہ جرائم نئے قانون کے تحت اب غیر قانونی نہیں ہیں انہیں لوگوں کے ریکارڈوں سے محو کر (مٹا) دیا جائے گا۔

□ یہ عمل خودکار ہے، لہذا ریکارڈ والے فرد کی طرف سے کوئی کارروائی مطلوب نہیں ہے۔

□ ریکارڈوں کو محو کرنے (مٹانے) میں دو سال تک کا وقت لگ سکتا ہے۔

■ نیا قانون ڈرائیور جن علاقوں میں آسانی سے پہنچ سکتا ہے وہاں پر بہنگ کی مہک کی بنیاد پر گاڑی کی تلاشی کو محدود کرتا ہے۔

■ نئے قانون کے تحت، بہنگ کے کسی فرد کے قانونی استعمال کو ریاستی یا مقامی پیروں یا پروبیشن کے بارے میں فیصلوں میں ملحوظ نہیں رکھا جا سکتا۔

■ نئے قانون کے تحت بہنگ سے متعلق جو جرائم تبدیل ہو گئے ہیں ان کے لیے لوگ اپنی موجودہ سزا عدالت سے کم کروانے پر قادر ہو سکتے ہیں۔

□ عدالت موجودہ سزا کو کم کر سکتی ہے اگر اس کیس سے مطلوبہ قانونی لیاقتیں پوری ہوتی ہوں۔

□ اخراج (نئے قانون کی وجہ سے لوگوں کے ریکارڈوں سے جرائم کو ہٹانے) کے برخلاف، دوبارہ سزا سنانا (نئے قانون کی وجہ سے سزا کو ایڈجسٹ کرنا) خودکار نہیں ہے۔ دوبارہ سزا سنانے کے لیے وکیل کو عدالت میں موشنز دائر کرنی ہوتی ہیں۔

ترک وطن

■ بہنگ وفاقی قانون کے تحت اب بھی غیر قانونی ہے۔ بہنگ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزیاں اب بھی ترک وطن کے سنگین مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔

■ مزید معلومات کے لیے، ترک وطن کی قانونی خدمات تلاش کریں۔ سٹی سے فنڈ یافتہ، مفت اور محفوظ ActionNYC ہاٹ لائن کو 800-354-0365 پر کال کریں، یا معلومات حاصل کرنے اور مدد سے مربوط ہونے کے لیے، پیر تا جمعہ، 9 بجے صبح سے 6 بجے شام تک 311 پر کال کریں اور "ActionNYC" (ایکشن این وائی سی) بولیں۔

مفت قانونی اعانت کے لیے، لیگل ایکشن سنٹر (212-243-1313)، لیگل ایڈ سوسائٹی (212-577-3300)، لیگل سروسز NYC (917-661-4500) یا نیو یارک لائبرز برائے مفاد عامہ (212-244-4664) سے رابطہ کریں۔ مزید معلومات کے لیے، 311 پر کال کریں۔

مزید معلومات کے لیے، nyc.gov/health ملاحظہ کریں اور "cannabis" (بہنگ) تلاش کریں۔